

پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک سکولز
میک کینی- وینٹو ہوم لیس اسسٹنٹ ایکٹ (ہر طالب علم/طالبہ کی کامیابی کا ایکٹ کی دوبارہ تصدیق، ٹائٹل IX، حصہ A)
حقوق اور ذمہ داریاں

میک کینی- وینٹو ہوم لیس اسسٹنٹ ایکٹ برائے (§2001 §11432) ہر طالب علم/طالبہ کی کامیابی کا ایکٹ کی دوبارہ تصدیق، ٹائٹل IX، حصہ A، ہر ایک کے لیے سکول میں داخلے کی ضمانت دیتا ہے جو، معاشی مشکلات، مستقل گھر کی کمی کی وجہ سے ناموزوں یا عارضی جگہ پر رہتے ہیں، جیسے:

- ہنگامی صورتحال یا منتقلی کی پناہ گاہوں میں
- موٹل، ہوٹلوں یا کمپ گراؤنڈوں میں
- گاڑیوں، پبلک جگہوں، بس یا ٹرین سٹیشنوں یا متروک عمارتوں میں
- رشتے داروں یا دوستوں کے ساتھ مل کر (معاشی مشکلات کی وجہ سے)
- ان حالات میں اور بچہ/بچی خانہ بدوش ہے

*بے گھر ہونے کے تعین کی بنیاد، رہنے کی مستقل اور مناسب صورتحال پر غور پر ہے، اور ہر انفرادی طور پر ہر کیس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

بے گھر طالب علم/طالبہ (طلباء) کے اہل خانہ کے حقوق درج ذیل ہیں:

- آپ کو اپنے بچہ/بچی کو سکول میں داخل کرانے کے لیے مستقل پتے کی ضرورت نہیں ہے۔
- آپ کے بچے/بچی کو سکول میں داخلے سے منع نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کے پاس سکول ریکارڈ یا داخلے کے دیگر دستیاب فوری طور پر دستیاب نہیں ہیں۔
- ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ/بچی اسی سکول میں رہ سکے (اس علاقے کا اصل سکول) چاہے آپ وہاں سے منتقل ہو چکے ہیں۔
- آپ کے بچہ/بچی کے بہترین مفاد میں، اس کو اپنے علاقے کے سکول سے اور وہاں تک ٹرانسپورٹیشن کا حق حاصل ہے۔
- اگر داخلے کے سلسلے میں کوئی تنازعہ ہے تو سکولوں کو لازمی طور پر تحریری وضاحت دینا ہو گی اور آپ سکول کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔
- آپ کا بچہ/بچی خود بخود مفت ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے پروگراموں کے لیے اہل ہو گا۔
- آپ کے بچہ/بچی کو غیر نصابی سرگرمیوں اور تمام وفاقی، ریاستی یا مقامی پروگراموں میں شرکت کرنے کا حق ہے جن کے لیے وہ اہل ہیں۔

تہا نوجوان جس کے پاس مستقل، باقاعدہ، اور مناسب گھر نہیں ہے، اسے بھی یہی حقوق حاصل ہیں۔

نیچے دستخط کرنے کے بعد، میں اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ میں نے مک کینی-وینٹو ہوم لیس اسسٹنٹ ایکٹ برائے (§2001 §11432)، ہر طالب علم/طالبہ کی کامیابی کا ایکٹ کو بااختیار بناتا ہے، ٹائٹل IX، حصہ I کے تحت اپنے حقوق جان گیا/گئی ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا/سمجھتی ہوں۔

طالب علم/طالبہ سے رشتہ:

نام صاف صاف لکھیئے:

تاریخ:

دستخط:

مزید معلومات کیلئے براہ مہربانی درج ذیل سے
رابطہ کیجیئے: مک کینی-وینٹو کے
رابطہ کار

Edward. L. Kelly Leadership Center
ATTN: Office of Student Services
14715 Bristow Road
Manassas, VA 20112
703.791.8839 فیکس 703.791.7436

McKinneyVento@pwcs.edu

*والد یا والدہ/سرپرست کو ایک نقل فراہم کریں اور دفتر برائے سٹوڈنٹس سروسز کو ایک نقل فیکس کریں۔ اس فارم کو سٹوڈنٹ فائل میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس فارم کو ایک تعلیمی سال کے لیے سکول میں رازدارانہ فائل میں رکھا جائے گا۔